

# نیو یارک سٹی میں بھنگ: صحت پر اثرات

بھنگ (ماریجوآنا) نیو یارک اسٹیٹ میں بالغوں کے استعمال کے لیے قانونی ہے۔



بھنگ کی فروخت کی ابھی تک اجازت نہیں ملی ہے۔ بھنگ قانونی طور پر خریدنے اور اگانے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، [cannabis.ny.gov](http://cannabis.ny.gov) ملاحظہ کریں۔



نیو یارک کے طبی بھنگ پروگرام کی توسیع کر دی گئی ہے۔ تبدیلیوں کے بارے میں معلومات کے لیے، [cannabis.ny.gov/medical-cannabis](http://cannabis.ny.gov/medical-cannabis) ملاحظہ کریں۔



21 سال اور زائد عمر کے بالغان بیشتر ایسی جگہوں پر بھنگ کی اسموکنگ یا ویپنگ کر سکتے ہیں جہاں تمباکو نوشی کی اجازت ہے۔



3 اونس یا 24 گرام

21 سال اور زائد عمر کے بالغان تین اونس تک کا بھنگ کا پھول یا کونیل، یا 24 گرام تک ارتکاز یافتہ بھنگ جیسے تیل یا ویپس اپنے پاس رکھ یا شیئر کر سکتے ہیں (لیکن بیچ نہیں سکتے)۔

کیا بھنگ کا استعمال کرنے کے بعد گاڑی چلانا یا کار کے اندر بھنگ استعمال کرنا قانونی ہے؟



■ جی نہیں۔ ناقص حالت میں یا بھنگ کے زیر اثر ہونے کے دوران گاڑی چلانا قانونی نہیں ہے۔

■ کار کے اندر، چاہے پسینجر کے بطور یا پارکنگ کی حالت میں بھی بھنگ استعمال کرنا قانونی نہیں ہے۔

نیو یارک میں کہاں پر بھنگ کی اسموکنگ یا ویپنگ کی اجازت نہیں ہے؟



■ بھنگ کی اسموکنگ یا ویپنگ کی ان مقامات پر اجازت نہیں ہے:

■ عمارتوں کے عوامی حصے

□ پارک

□ ساحل اور بورڈ واکس

□ عوامی گولف کورس

□ اسپورٹس اسٹیڈیموں کے اندر اور ان کے گراؤنڈ میں

□ پیدل راہ گزار والے پلازے

□ عوامی باغیچے

□ ریستوراں

□ شراب خانے

□ کاریں اور دیگر موٹر گاڑیاں (چاہے پارک کی ہوئی ہوں)

□ اسکول

کون قانونی طور پر بھنگ رکھ سکتا ہے، اور وہ کتنی مقدار رکھ سکتے ہیں؟

■ 21 سال اور زائد عمر کے بالغان تین اونس تک کا بھنگ کا پھول یا کونیل، یا 25 گرام تک ارتکاز یافتہ بھنگ (جیسے تیل یا ویپس) رکھ سکتے ہیں۔

■ 21 سال سے کم عمر کے کسی بھی شخص کے لیے بھنگ رکھنا، استعمال یا شیئر کرنا قانونی نہیں ہے۔

کیا لوگ بھنگ کو شیئر کر، اسے بیچ یا اس کی تجارت کر سکتے ہیں؟

■ 21 سال اور زائد عمر کے بالغان تین اونس تک کا بھنگ کا پھول یا 25 گرام تک ارتکاز یافتہ بھنگ 21 سال اور زائد عمر کے بالغان کے ساتھ ان کے ذاتی استعمال کے لیے شیئر کر سکتے ہیں۔

■ کسی بھی شخص کے لیے یہ امر قانونی نہیں ہے کہ:

□ تین اونس سے زیادہ بھنگ کا پھول یا 24 گرام ارتکاز یافتہ بھنگ رکھے یا شیئر کرے

□ بھنگ کی کوئی بھی مقدار بیچے یا اس کی تجارت کرے

□ بھنگ کی کوئی بھی مقدار 21 سال سے کم عمر کے لوگوں کو دے یا بیچے

■ نیو یارک سٹی ہاؤسنگ اتھارٹی (New York City Housing Authority, NYCHA) کے ہاؤسنگ ڈیولپمنٹس میں اسموک فری پالیسیاں ہیں جو مکان میں تمباکو اور بھنگ کی اسموکنگ اور ویپنگ پر پابندی عائد کرتی ہیں۔ جو عوامی رہائش وفاق پروگرام کا حصہ ہے وہ بھنگ اور بھنگ کے پروڈکٹس کی تملیک اور استعمال کو ممنوع قرار دینے والے وفاق قانون کے تحت آتی ہے۔

■ مجھے مزید معلومات کہاں مل سکتی ہیں؟

خلاف ورزیوں کے مدنظر قانون اور ہرجانوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، [cannabis.ny.gov/adult-use](https://www.cannabis.ny.gov/adult-use) ملاحظہ کریں اور "Penal Law Fact Sheet" (پینل لاء کا حقائق نامہ) پر کلک کریں۔

■ وفاق قانون کے تحت، اب بھی وفاق پراپرٹی پر کسی بھی شکل میں بھنگ رکھنا یا استعمال کرنا قانونی نہیں ہے۔ اس حقائق نامہ میں بیان کردہ نیو یارک اسٹیٹ کا قانون کسی بھی وفاق پراپرٹی پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ وفاق قانون کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، [fda.gov](https://www.fda.gov) ملاحظہ کریں اور "**cannabis regulation**" (بھنگ کا ضابطہ) ملاحظہ کریں۔



■ کچھ نجی عمارتیں یونٹس کے اندر اسموکنگ اور ویپنگ کو ممنوع قرار دیتی ہیں۔ یوں تو پراپرٹی مالکان اپنی عمارتوں میں بھنگ کی اسموکنگ اور ویپنگ کو ممنوع قرار دے سکتے ہیں، مگر وہ آپ کے گھر میں خوردنی چیزیں یا بھنگ کی قانونی مقدار پاس رکھنے پر پابندی نہیں لگا سکتے ہیں۔

مزید معلومات کے لیے، [nyc.gov/health](https://www.nyc.gov/health) ملاحظہ کریں اور "**cannabis**" (بھنگ) تلاش کریں۔